


وعائم فيرسم یه دُعاتے شرافی شیوں کی مقبراور شہور ترین وُعادُن مي سے ايك سے - يراعلى مضامين اور بہترين مفايم کی حامل ہے۔اس کی مثال اس سرگونٹی کی سی سے بحسایک منتظر ملمان ، نظروں سے غائب اینے امام کے یا دہیں ، ہارگاہ فرایس کرنا ہے۔ یہ اہل بیت علیهمانسلام کے فضائل، مهدی کی آمد کی نوید اوراس اختاب عدالت کی عالمی حکومت کے وراید ونیا کی اصلاح اور عدل کے فروغ کے بارے میں شیعہ اعتقادات ونظریات کاایک جائزہ ہے۔ جاروں \_ يعنى عيدالفطر، عيدالفنحي ، عيد غدير اورحب مه کے دن اس کا پڑھنامستیب ہے۔



یشے محدبن المشہدی کتاب "المزار" میں \_\_\_ یکی ملامر مجلسی کی کتاب " بجار" کے ملارک سے ایک ہے ۔ اور سیدبن طاوس نے "مصباح الزائر" میں ، بہرداماد نے "ایام الاربعہ" میں اور دیگر افراد نے روایت کی ہے کہ امام صادق فدر ، فطر ، قربان اور مجمعر کے دن دُعا فیکر ، فربان اور مجمعر کے در معمد کے در معم



#### اِذِاخْتُرْتَ لَهُمْ جَزِيْلُ مَا

اس طرح ان کے یے اپنے پاکس موجود

عِنْدَاكُ مِنَ النَّحِيْمِ الْمُقِيْمِ الَّذِي

انعمتوں میں سے زائل و کم نہ ہونے

لازوال كذولا اضيحكال،

والى نعمتول كا انتخاب فرمايا

بَعْدَان شَرَطْتُ عَلَيْهُمُ الزُّهْدَ

اوربراس وقت مواكرجب توان سے عمد لے چكا

فِي دُرُجًا تِ هُذِهِ اللَّهُ نَيَا اللَّهِ نِيَّةِ

تقاكراس ذليل دنيا كے رُتب اوراس ميں موجود زنگينوں

نَبِيّه وَالِهِ وَسَكَّرَ تُسْلِيْهًا،

مولا و سردار محدٌ اور ان کي آل پر نازل فرما.

اللَّهُ مِّ لَكُ الْحُمُّدُ عَلَى مَا

بارالها! تری عمد وثنا کرتے ہیں تیری اس رضاؤشیت

جَرَى بِهِ قَضَاوُكُ فِي آوُلِيارُكُ وَ

پرکہ جے تونے اپنے اولیاءودوستوں کے بیےجاری فرمایا

النوين استخلصتهم

دہ دورت کرجنیں تونے، اپنے اور اپنے دیں کے

لِنُفْسِكَ وَدِيْنِكَ،

کے لیے خالص و مخفوص کرایا ۔



ورفرفها وزبرجها، اورزینتوں سے تیم بوشی زہرافیتار کری گے۔ فشرطو الك وعلمت منهم چنا نچا عفول نے اس عمر بمان کو قبول کرایا اور تونے ان کی الوفاءبه اس عمدديمان بردفاداري ادراستواري كوجان بيا . فقبلتهم وتريتهم وتامق بس عيرتوني انيى درگاه مين قبول كرايا اليف مقام قرب لَهُمُ الذِّكُوالْجَلَّ وَالثَّنَاءُ الْجُلَّ ، سے آٹ کیا ہما ت کر انہیں بندیا یہ ذکر قرآن اور اضح تعرفی مزاری وُبِعُضُ النَّحَانُ تَكَا لِنَفْسِكَ

اور کچھ کو اپنے یے دوست وخلیل کے طور برانتاب

خَلِيْلُاوَّسَالُكُولِسَانُ صِنْقِ

فرایا اور ان کی خواہش اور آرزؤں کو بعدیں آنے

في الْأُخِرِبْنَ فَأَجَنِتُهُ وَجَعَلْتَ

والى امتول كى لى إن صدق قرار في كر قبول كرايا اور اول

ذُلِكَ عَلِيًّا،

معرفت کے بلندمرتبہ پربینیادیا۔

وَ بَحْضُ كُلَّنْتَا وَنَ شَجَرَةٍ

العض كے ماتھ درخت كے ذراح مخصوص طراحة سے گفتگو

فبعض اسكنتا جنتك

الى آن آخر جَنَهُ مِنْهَا،

یماں تک کہ آدم کو اس سے فارج کیا۔

رُ بَعْضُ حَهُلْتُهُ فِي فَالْكِكُ وَ

اور لیفن کو اپنی کشتی میں سوار کیا اکسی طرح

نَجِيْنَكُ وَمَنْ امْنَ مَكَةً مِنَ


اپنی رجمت کے ذرایع انہیں اور ان بر ایسان

الْهُلُكُةِ بِرُخْمَتِكَ،


لانے والوں کو ہلاکت و نابودی سے نجات بخشی

وُكُلُّ شُرْعُت لَهُ شُرِيْعَةً وَّ فلاصہ یہ کہ ہرایک کے لیے آئین و دستور اشراعیت) الْهُجْتَ لَهُ مِنْهَاجًا، فراہم کی اور ہرایک کے لیے راہ روش معین کی۔ وتخبرت لذاؤ وسيآء مستخفظا اورسرایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جوتیرے بَعْدَهُ مُسْتَحْفِظِ مِنْ مُّلَّةٍ إِلَى دین کے قیام کیلیے کی نوانے سے بہرے نوانے یک بجیثیت مُنَّاقِ إِنَّامَةُ لِبِينِكَ، ا محافظ شراحیت باتی رہے۔

تُكُلِنُهُا وَجَعَلْتَ لَهُمِنَ آخِيْهِ ک اور ان کے بیے ان کے بھائی ردُءًا وَوَزِيْرًا، مدد گار و معاون قرار دیا۔ وَبَعُضُ أَوْلُدُ تُكَامِنُ عَيْرِ مجر کھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا مجمر انہیں اب وَاتَيْتُهُ الْبِينَاتِ وَاتَيْتُهُ الْبِينَاتِ وَاتَّلُتُهُ روستن نشانیال عطاکیس اور رورح قسدس بِرُدُج الْقَدُس، اسے ان کی مدد فرمائی ۔



وَحُجَّةً عَلَى عِبَادِ لَا وَلِكُلًا تاکہ تیرے بندوں پر سجت قائم رہے اور حق اپنی يَزُولُ الْحَقَّعَنَ مَّقَرِّم وَ جگہ سے متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل يَغْلِبُ الْبُاطِلُ عَلَى الْهُلِهِ، وُلايقُولُ أَحَالُولُا أَرْسُلْتُ اورکوئی یہ مذکمہ سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الْيُنَارُسُوُلُامُّنُولُامُّنُوزًا وَّٱقَيْتَ ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے یے کوئی



فكان كها انتجبته سيدمن یس وہ جیسا کہ تونے انتخاب کیا تھا تمام خَلْقَتُهُ وَصَفُوهُ مِن اصَطَفَيْتُهُ مخلوقات کا سردار منتخبول کا انتخاب، وَأَفْضُلُ مُنِ اجْتُبُيْتُهُ وَ انتخاب شدگان میں افضل ترین فرد اور تیرے الْرُمُ مِن اعْتَهُلُ ثُنَّةً ، معتدین میں بزرگوار ترین ستی تھا۔ قُتُّامِّتُهُ عَلَى ٱلْبِيَالِيُكُ وَبَعْثَتُهُ کہ جے تونے اپنے تمام انبیار پر

عَلَى البِّيْنِ كُلِّهٖ وَلُوْكُرِهُ تمام ادیان ومکاتب پرغلبه عطا فرائے گاخواه مشرکون الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُ پریہ بات کتی ہی گال کیون ناگزدے۔ وَذَ لِكَ بِعُدَانَ بَوَّاتَهُ مُبَوًّا اوربرعمد دوعده اس وقت بواجب كرتونے انبيل اپنے صِلْقِ مِنْ الْمَلِهِ، خاندان يسمقام صدق رسيامرتبه عطافرايا وَجِعَلْتُ لَهُ وَلَهُمُ أَوَّلَ بَيْتٍ اوران کے اوران کے خاندان کے میاس گر و قرار

يكون إلى انقضاء خلقك ہوتے وگزرنے والے امور کے علم سے نوازا۔ تترضرته بالرعب وحففته مجمراس ابن رعب وجلال سے نصرت بخشی ہجرئیل بجبر ميل وميكاميل والهسويين اورمیکائیل و دیگراینے با نام ونشان فرمشتوں کو مِنْ مُلَا ثِكْتِكَ، اطراف يس معين كيا-وُوعَلُ ثُنَّانُ تُظْهِرُ دِينَ لا ادرای سے یہ دعدہ کیا کہ اس کے دین دائیل کودوسر

وُّضِحَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبُلَّةُ مُلِرُكًا دیارجوانسان کے لیے پیلاگھرتھاج کرمخریں بنایا گیا تھا بیٹک وَّهُدُّى لِلْخُلِمِينَ ﴿ یکھراہے جمال کے لیے برکتوں کامرکز اور ہدایت کا سرجہے۔ فيه إياك بيناك مقام إبراهم اس مرين روش نشانيال قراروي جن مي ايك متفي الراسم وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ امِنًا، ہے اور جواس میں داخل ہوگیا امان باگیا۔ وَقُلْتَ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُنَا هِبَ اور فرمایا: الله كافقط و فقط ساراده ب اسال بت

# ٱجْرِالْامَنْ شَاءَ ٱنْ يُتَّخِنَا إِلَى

کھے نہیں جا ہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا

رته سبتلا"

فَكَانُواهُمُ السَّبِينُ الدِّيْكُ وَ

پس دہ لوگ راہل بیت ہی تیری طرف جانے والاراستہ

وَالْمُسْلَكِ إِلَى رِضُوانِكَ،

يس ادرتيري رضا وخوشنودي پرنتي مونے والاطرافقيس.

فَلَيُّا انْقَضْتُ إِيَّامُهُ،

عرجب عدرمالت افتتام كحقرب آبنجا

"قُلْ لِا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَالِلا

"اے دمول کہ دیجے کمیں تم سے موائے ابلیت کی

الْهُودَّةُ فِي الْقُرْبِي"

عبت کے کوئی اجر نہیں جاہتا۔"

وَقُلْتُ: مَاسَأَلْتُكُرُ مِّنَ آجُرِ

اور قرمایا: "وه اجرع بم نے تم سے طلب کیا ہے

فَهُوْلُكُمْ"

وہ تمارے ہی لیے ہے "

وَقُلْتَ: مَأَاسًا لُكُوْعَلَيْهِ مِنْ

اور فرایا: یس تم سے اپنی رسالت کا اجراس کے علاوہ

مَنْ كُنْتُ مُوْلِا اللهُ فَخِلِيٌّ مَوْلِالاً "

یں جس کا مولا ہوں علی تھی اس کا مولا ہے

"اللَّهُ مَّوَالِ مَنْ وَالْالْادُوعَادِ مَنْ

اے فداج علی سے دوی رکھے آنے تو بھی ورت رکھ ہونل سے

عَادَاهُ وَانْصُرُمُنْ نَصَرَهُ وَ

وشنى كے توجی اس سے تمنی رکھ اور جوعلى كى مددكرے توجیل س

الْحَالُ مَنْ خَالُهُ"

کی مدوفر ما بچ علی کوزک کردے تو بھی اسے ترک فرما۔

وْقَالَ، مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّة

اورفرمایا ، " بین جس کا نبی بون عسلی اس

ٱتَّامُ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بَنَ إِنْ طَالِبِ

تواننوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب دکھاکی جمتیں ان

صَلُواتُكَ عَلِيهِمَا وَالِهِمَا هَا وَالْهِمَا هَا وَيَا

دونون متیون اوران کی آل پرنازل مون کولینے بعد دادی قرار

إِذْ كَانَ هُوَالْمُنْ ذِرُ وَلِكُلِّ

دیا کیونکہ وہ ہی تون فراسے ڈرنے والے عقے جبکہ ہر

تُومِهَادٍ"

قوم کے لیے ایک بادی ہوتا ہے۔

فَقَالَ وَالْهَلَا أَمَامَهُ:

پس مرداران قوم ومغززین لمت کے سامنے فرمایا

سب

HA.

We de ste

فَعُلِيَّ آمِيْرُهُ "

ا امير -

دَقَالَ: ٱنَاوَعِلَيُّ مِنْ شَجَرَةٍ

اور فرمایا ، میں اور علی ایک درخت سے اور ایک کی

وَّاجِدُ وَسُأْئِوُ النَّاسِ مِنْ

اصل سے ہیں جب کہ باقی انسان بھوے ہوئے

شُجُرُشُتَی"

فخلف درختول سے

وَاحَلَّهُ مَحَلَّ هُرُونَ مِنْ مُولِي

ادر علی کو دہی مقام جو ہاروں کو موسی سے کتا

فقال له:

ديتي موئے فرمايا ؛

"ٱنْتَعِرِّى بِمُنْزِلَةِ هُرُوْنَ مِنْ

اے علی تم میرے لیے اس طرح ہوجیے باردن موسی کے

مُّوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نِينَّ بَعْدِي "

یے مر یہ کم میرے بعد کوئی اور نی نیس آئے گا

وَزُوِّجُهُ ابْنَتُهُ سُمِّيكُ الْمُ نِسَاءِ

ادراینی بیٹی کو کرسارے بھال کی عورتوں کی سرداریں کو

الْعَالَمِينَ.

على كے عقديس ديا۔

ساب

وَأَحُلُ لَهُ مِنْ مُسْجِدِ فِي مَاحُلُ لَكُ

انی معدی جامور لینے روول کے کیے حلال مقدان کے لیے

وَسَدُّ الْكِبُوابِ إِلَّا يَاكِيْهُ ،

قرارية اورسيدكته دروان بندكردية كفادران كادروازه كوالا

الْقُرَاوْدُعَهُ عِلْمُهُ وَجِلْبَتُهُ فَقَالَ:

عجرانيس ايناعلم وحكمت ودليت كرك فرمايا

اَنَامُلِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَايُهَا،

میں علم کا شهر جول اور علی اس کا دروازہ ہیں، لیس

فَهُنَّ أَرَادُ الْهُلِينَاءُ وَالْجِكْهُاةُ

جومی اس شروعمت کا خواباں ہے وہ اس کے

"لَفِيلِنَ مُلِياتِهَا فِي الْمِنْ الْمِيانِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

دروازے سے ہوکر آئے۔

ثُمِّ قَالَ: ٱنْتَ أَنْتَ أَنْ وَوَسِيِّي

عجر فرمایا، یاعلی تم میرے بھائی وصی

وَوَارِنِيْ "


ادر وارث بو،

لَحُمُكُ وَنُ لَحُمِنُ لَحُمِنَ الْحَمِينَ ،

المالا گوشت میرے گوشت ہے۔

وَدُمُكُ مِنْ دَرِي،

المال فول ميرے فول سے ہے۔



وَسِلْمُكُ سِلْمِي، تهاری صلح میری صلح ہے۔ وَحُرُنُكَ حُرُنُي، المتمارى جنگ ميرى جنگ ہے۔ وَالْإِيْهَانُ مُعَالِظًا لَّحْمُكُ وَ اورایان تمارے گوشت وخون بی اس طرح گھنگ بل دَمُكُ لَهَا خَالُطُ لُحِمِي وَدَفِي، گیاہے جس طرح میرے گوشت وخون می گھل چکاہے وأنت غداعلى الحؤض خليفتى اوركاتم قيامت كي حوش كوثر ككان عيم خليفاور جانش موسك

وَلُوْلُوَ الْنُكَ يَاعِلِيُّ لُوْ يُعْرَفِ اوراے علی! اگرتم نہ ہوتے تومیرے بعد مونین کی لَلْوُ مِنْوْنَ بِعُدِي " فناخت مکن بد ہوتی ۔ وْكَانَ يَعْدُهُ اور لال إواقعنًا السابي تفا هُنُى مِنَ الطِّلَالِ وَتُؤمُّ على رسول كے بعد كمرا بيون بي را بنما اور تا ريكون بي ونالعني جراع بعيرت عقر

كيا اور سركش مجير لون كورگام دے كران برغلبه بايا۔

فَأَوْدُعُ قُلُوبُهُمُ أَخْفَادًا بُنُرِيَّةً وَ

یماں یک کہ ان کے دلوں کو بدری ، خیبری ،حنینی،

خَيْبِرِيَّةً وَعِنْدِنِيَّةً وَغَيْرِكُمْنَ ،

اور دوسرے کینوں سے تھر دیا۔

فَأَضَبُّكَ عَلَى عَدَاوَتِهٖ وَٱكْبُّكَ

اور کھران کے سینول میں تھرا ہوا یا تغض اور کینمائی

علىمنابناته

کی دشمنی اوران سے جنگ پرمنتهی موا.

يَحُنُ وُحَنَّ وَالرَّسُولِ

جب کہ ان کے قدم رسول کے نقش با پر عقے۔

صَلَى اللهُ عَلَيْهِهَا وَ الهِهَا،

فاما!ان دونون ستيول اوران كے خاندان برائني رحمت دوونازافط

وَيْقَاتِلُ عَلَى الْتَارِيلِ

علی نے قرآن کی تاویل پر جنگ کی۔

وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَا يُمِّورُ

ملامث ندّمت كرنىوالول كى مدّمت كھى على كوحق كے التے سے روك كى

قَنْ وَتُرَفِيُهِ صَنَادِيْكَ الْعَرَبِ

ادر کھرع ب کے بڑے بڑے الادرول کو کچھاڑا ، مبلوانول کو تبتغ

### حَتَّى قُتُلَ التَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ

اور یون علی کو ناکثین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ

وَالْهَارِقِيْنَ،

جنگ کرنا پڑی۔

وكهاقضى تخبة وقتكة أشقى

اورجب ان كا وقت وفا آجيكا اورشقي ترين انسان

الْأخِرِيْنَ يَتُبُعُ الشُّقَى الْأَوَّلِينَ،

نے پیلے شقی ترین خلق کی پیردی کرتے ہوئے انین قتل کردیا

لَمْ يُمْتَثَلُ أَمْرُرَسُوْلِ اللهِ

اوراس طرح فرمان رسول خداصل الشرعليه وآله وسلم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي

کوعلی اوراولاد علی کے سلم میں کہ جو امّت کے

الْهَادِيْنَ بَعْدَالْهَادِيْنَ،

ہے ایک کے بعد ایک ادی تھے روان رکھا۔

وَالْرُمَّةُ مُصِرَّةً عَلَى مَقْتِهِ ،

مجرالیا زاد آیا کرامت نے ان کی وشمنی پر

مُجْتَهِعُةٌ عَلَى قَطِيعُة رَجِهِ

كر بانده لى، ان كے تطع رحم پر الفاق كيا اور

وَإِقْصَاءِ وُلُوهِ

ال كاولادكوان كے حق سے فرم كيا۔

وَجُرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِهَا يُرْجَى

اس طرح قضاء ومثبت المنى ان كے يعي جارى موتى ماكم

لَهُ حُسنُ الْهُثُوْبُةِ،

وه نیک اسنجام وجزارخیرتک بهنیخ سکیس

إِذْ كَانَتِ الْدُرْضُ لِلَّهِ يُؤْدِثُهَا

کیونکہ زمین تو خدائی کی ہے وہ اسے اپنے بندول

مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ

المن سے جے چاہے اسے بخش دے اور انجا وعاقبت

لِلْهُتُقِينَ،

ترمون مقین کے لیے ہے۔

الد القليل مِهْنَ دَفي لِرِعَاية

مگر اس مقوری سی تعداد نے کرجنہوں نے ان کے حق کا

الْحُقِّ فِيهُمُ

خيال رڪھتے ہوئے وفاکی۔

فَقُرِلُ مَنْ قُرِلُ ،

ان یں ان یں سے کوئی ماراگیا،

و سُبِي مَنْ سُبِي،

كوئى قيد وبنديس كرفتار بوا،

وَأَقْصِى مَنْ أَقْصِى،

اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا،

وَ الْهِ لَمَا فَلْيَبُكُ الْبَاكُونَ ،

سائب یر گری کری۔

وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُ بِالثَّادِبُونَ،

نالہ وزاری کرنے وائے ان پر نالہ وزاری کریں۔

وَلِهِثُلِهِمْ فَلْتَأْرُفِ اللَّامُوعُ،

الیی متیاں ہی سزاواریں کہ انکھیں ان کے بیے نوانگ بریل

وَلَيْضُوخِ الصَّارِخُونَ وَيَضِجُّ

فریاد کرنے والے فریاد کری ! پکارنے والے

الصَّاجُّون وَيَجِجُّ الْعَاجُّون ،

الكاري! أواز دين والے أواز دي.

وُسُبُعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُنْ

پاک ہے ہمارا پروردگاراس کا وعدہ علی ہوکر رہے گا

رُبِّنَا لَهُفُحُولُهُ وَلَنْ يُخُلِفَ اللَّهُ

اور دہ ہرگزاہنے دعدہ کے خلاف النجام نہیں

وَعُدَاهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

دیتا جب که وه قدرت وعلم رکھتا ہے۔

فَعَلَى الْاَطَائِبِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ

پس محدد على صلى الله عليهما كے البيت كاحق

مُحَمَّدِ وَعَلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِا

ہے کہ دونے والے ان کے

نابد

اين الحسن اين الحسين ؟

كال يى حق ؟ كال يى حيي

أَيْنَ أَبِنَاءُ الْحُسَيْنِ؛

کمال ہیں فرزندان حصین ؟

صَالِحٌ بَعْنَ صَالِحٍ، وَصَادِقً

جومالح کے بعدمالح ، اور مادق کے

بَعْدُصَادِقٍ،

لعد صادق عقر.

إِنْ السِّبِيْلُ بَعْدُ السِّبِيْلِ ،

وہ راہ ہدایت کے روش راستے وایکے بدایات نے کماں ہے؟

اَيْنَ الْخِيرَةُ بَعْنَ الْخِيرَةِ ؛

وه نیکبول کے بستے جوایا کے بعدایاتے ، کہاں کھو گئے ؟

أَيْنَ الشُّهُوْسُ الطَّالِكَةُ ؟

كهال بين وه رؤسشن آفاب!

إِنَّ الْأَقْهَارُ الْمُنِيرُةُ ؟

مِكَة بُوحُ جَاند؟

أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ ؟

اور پر منیار تارے؟

اَيْنَ اعْلَامُ الدِّيْنِ وَقُواعِدُ الْحِلْمِ ؛

ان دین کی نشانیول اورعلم کے ستونول کو کمال تلاش کری؟

کمال ہے وہ شخفیت کرس سے ظلم دستم کے ازالہ کی

وَالْعُنُوانِ ؛

اميدين والبنتهي ؟

أَيْنَ الْبُدُّ حُرُلِتَجْدِيْدِ الْقُرَائِضِ

کمال ہے وہ کہ جو واجبات وسنن الهی کی تجدیدے لیے

وَالسُّنُونِ؟

ذخره کیا گیا ہے؟

أَيْنَ الْمُتَخَبِّرُ لِإِعَادَةِ الْبِلَّةِ

کمال ہے دہ کہ جو ملت و مشراحیت کو بیٹانے کے لیے

اَيْنَ بَقِيَّةُ اللهِ الَّبِي لَاتَخُلُوْا

كمال ب و فاندان عترت كا وه فقيره اللي

مِنَ الْمِتْرَةِ الْهَادِيَةِ ؛

کہ جس سے زمین کہمی فالی نہیں رستی ؟

أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْمِ دَابِرِ الظَّلْمَةِ ؟

کہاں ہے وہ ستی جوظلم وسم کی جڑی اکھا ٹےنے کے لیے تیاری

أَيْنَ الْمُنْتَظُرُ لِإِقَامَةِ الْأُمْتِ

کہاں ہے وہ بزرگوار کر جو آ کر کجیوں اور نقائص کی

وَالْحِوْجِ؟

اصلاح کرے ؟

sui Me Me

اَيْنَ هَادِمُ إَبْنِيَةِ الشِّرُالِحِ وَالنِّفَاقِ ،

كماس ہے؟ شرك ونفاق كى بنيادوں كو دھادينے والا!

أَيْنَ مُبِينًا أَهْلِ الْفُسُوْقِ وَ

كمال ب ؟ وه فاسقول أباغيول اور گنام كارول كى

الْعِصْيَانِ وَالطَّغْيَانِ؟

جرول كو أكهار بيينكني والا!

أَيْنَ حَاصِلُ فُرُوْعِ الْغِيَّ وَ

کہاں ہے ؟ الخراف د اختلاف کی ثانوں کو

الشِّقَاقِ؛

كاك دين والا!

وَالشَّرِيْعَةِ ؟

انتخاب کیاگیا ہے ؟

أَيْنَ الْمُؤُمِّلُ لِإِخْيَاءِ الْكِتَابِ

کہاں ہے وہ سی کہ جسے قرآن اور صدودِ قرآن کو ازمرنو

وَحُنُاوُدِهِ وَ

زنده كرنے كى المدي والبترين ؟

أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ البِيْنِ وَالْفِلِهِ ؟

كمان ہے وہ دين كى نشاينوں اورائل دين كوزندہ كرنے والى ستى؟

أَيْنَ قَالِمِمْ شُوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ،

اوركب بي بظالمول درجا برص كى ثاب شوكت كودرم برم كرفين والا

#### التَّضْلِيْلِ وَالْدِلْحَادِ؛

یخ کنی کرنے والا؟

ٱيْنَ مُعِزُّ الْاَوْلِيَاءِ وَمُ فِلْ

اور کہاں ہے ؟ وہ دوستوں کوعرت بخشے اور دھمنوں

الأعكاء

كوذليل ورثواكرنے والا!

أَيْنَ جَامِعُ الْكِلْمَةِ عَلَى التَّقُوٰى ؟

کہاں ہے دہ کلمہ تقوی پرجمع ومتحد کرنے والا؟

اَيْنَ بَابُ اللهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى ؟

کاں ہے ؟ وہ باب اللہ کر حس سے داخل ہوا جا تاہے؟

اَيْنَ طَامِسُ اثَارِ الزَّيْخِ وَالْكَهُو آءِ؟

کہ ہے وہ اکراف ہوی وہوں کے آثار کو محود نابود کر دنیوالا؟

أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذَبِ وَ

کهاں ہے وہ محبوث و افتراء کی گرہوں اور بندسوں

الدفتراء

كوكهول دينے والا؟

أَيْنَ مُبِينُ الْعُتَاةِ وَالْهَرَدَةِ ؟

كهال به وه سركشون اور تبارون كونالود كريين والا؟

أيْنَ مُسْتَاصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِوَ

کهاں ہے؟ اہل عناد والحاد و گراہی کی

رايةالهاىء

أين مُؤلِفُ شَمْلِ الصِّلَاجِ وَالرِّضَا

كهال سے خوبوں اور بنديدہ چزوں كوجمع كرنے والا

أين الطَّالِبُ بِذَحُولِ الْأَنَّبِيرُ

کماں ہے وہ ابیاء و فرزنران انسیاء کے

وَابْنَاءِ الْانْسِيَاءِ؟

خون کا بدلہ یلنے والا؟

أين الطَّالِبُ بِدُمِ الْهُقُتُولِ

اور کہاں ہے وہ مقتول کربلاء کے خون

ٱيْنَ وَجُهُ اللهِ الَّذِي كَي اليُّهِ يَتُوجُهُ

کہاں ہے؟ وہ وجہ اللہ کہ جس کی طرف اولیا، توجہ

ين السَّبُ الْمُتَّصِلُ بُنَى

کہاں ہے وہ زین وآسمان کے درمیان موجود ن

لْأَرْضِ وَالسَّهَاءِ؛

لوشنے وال بنے رهن ؟

ين صَاحِبُ يُوْمُ الْفُتُحِ وَنَاشِرُ

کهاں ہے وہ يوم فتح كا مالك اور مدايت كا يرفيم

ٱيْنَ صَلَّا رُالْخَلَا بِقَ ذُو الْبِرِّ

کماں ہے وہ نیک و متقی انسانوں

وَالتَّقُوٰى اِ

مردار؟

أَيْنَ ابْنُ النَّهِ بِي الْمُصْطَفَى ؟

اور کماں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ

وَابْنُ عَلِيِّ الْمُرْتَضَى؛

کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ ۔

وَابْنُ خُوايْجَةُ الْغُرَّاءِ؟

کمال ہے وہ جگر کوئٹ فدیجہ کری ۔

بڪڙبلاءَ؛

انتقام لين والا!!

آيْنَ الْهُنْصُوْرُعُلَى مِن اعْتَنَاى

كالب وه النيرنصرت وكاميابي عاصل كرين

عَلَيْهُورَافْتُرَى؛

والاجنول نے اس برطلم کیا اور تہمت سکائی ؟

اَيْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجَابُ

کہاں ہے وہ مضطرو بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو

اذاذعاء

بواب باجانا ہے؟

ai

يَا إِنْ الْهُدَاةِ الْهُهُرِيِّينَ ،

اے ہدایت یافتہ ہادلوں کے فرزند۔

يَابْنَ الْخِيرَةِ الْمُهَدَّبِينَ،

اے بہتری پاکیزگی نفس کی مالک بہتیوں کے فرزند

يَا ابْنَ الْفَطَارِ فَقِ الْأَنْجَبِينَ،

اے سخاوت مند کرموں کے فرزند۔

يَا ابْنَ الْرَطَانِبِ الْمُطَهِّرِيْنَ،

اے طبین و طاہرین کے فرند

يَا ابْنَ الْخَصَّارِمَةِ الْهُنْتَجَبِينَ

اے منتخب جواں مردوں کے فرزند۔

وَابْنُ فَاطِهُ ٱلْكُبْرِي؛

کہاں ہے وہ نورعین فاطمہ کبری ؟

بِأَبِي ٱنْتَ وَأُرِّى وَنَفْسِى لَكَ

میر ماں باپ آپ پرقر بان ہوں اور میری جان و دل

الْوِقَاءُ وَالْحِلْي،

آپ پر فداء ہو جائیں.

يَا ابْنَ السَّادَةِ الْمُقَرِّبِينَ ،

اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند!

يَا ابْنَ النَّجُيَّاءِ الْأَكْرُمِينَ،

اے بخیب و بزرگوارہتیوں کی یادگار



يَابُنَ الْأَنْجُمِ الرَّاهِرَةِ ، اے حق کی آشکار نشانیوں کے فرزند۔ يَا أَنُ الْعُلُوْمِ الْكَامِلَةِ ، اے علوم و معارفت النی کے فرزند يَا أَنْ الْأَعْلَامِ اللَّايْحَةِ، اے ان میروں کے فرزندج خدا کے واضح نثان تھے يَا بَنَ السُّنَى الْمُشْهُورَةِ ، اے مشور سنتوں کے فروند يَا أَنْ الْمُعَالِمِ الْمَاثُورَةِ، اے روایت شدہ علامتوں کے فرزند،

يَا إِنَّ الْقَهَامَةِ الْأَكْرُمِينَ ، اے کم وجود کے منبع و مرکز واہل کے فرزند. يَا ابْنَ الْكُنْ وُرِ الْكُنِيرَةِ ، اے نور بخشے والے ماہتابوں کی یادگار۔ يَا ابْنَ السُّرُجِ الْمُضِيْنَةِ ، اے نورانی پراعوں کے فرزند. يَا ابْنَ الشَّهُبِ الثَّاوِيُةِ، اے چک وار تاروں کے فرزند۔ يَا ابْنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ ، اے واضح واستوں کے فرزند۔ فدوندعلی وعکیم کے پاس موجودہے۔

يَا ابْنَ الْأِيَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ،

اے آیات (نشانیول) دبیات (دلیول) کے فرزند

يَاابْنَالِدُلَائِلِالظَّاهِرَاتِ،

اے واضح و آفکار دلیوں کے فرزند.

يَا ابْنَ الْبُرَاهِيْنِ الْوَاضِحَاتِ

اے واضح و روکشن برمانوں کے

الْبَاهِرَاتِ،

فرزند -

يَا ابْنَ الْمُحْجِزَاتِ الْمُوجُودَةِ ،

اے تحقق یافتہ معجزات کے فرزند

يَا ابْنَ اللَّاكِ رُئِلِ الْمُشْهُودَةِ ،

اے روکشن دلیوں کے فرزند.

يَا ابْنَ الصِّرَاطِ الْهُسْتَقِيْمِ،

اے صراط متقیم کے فرزند.

يَاابُنَ النَّبُإِالْعَظِيْمِ

اے فیربرعظیم کے فرزند،

يَا ابْنُ مَنْ هُوَفِي الْمِرَالْكِتَابِ

اے اس ستی کے فرزندجس کا ذکر ام الکتاب میں

يًا ابْنَ مَنْ دَىٰ فَتُنَالِّي فَكَانَ اے اس سنی کے فرزند کہ جو خدائے علی و قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دُنُوًّا وَ اعلی سے اتنا نزدیک ہوئی کہ گویا قربت ہیں اقْتِرَابًا مِنَ الْعُلِيّ الْرُعْلَى ، وو کمانوں یا اس سے تھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ ليْتُ شِخْرِي، اے کاش جان کتا۔ أَيْنَ اسْتُقَرَّفُ بِكَ النَّوٰى ، کہ کس مقام پرآپ کے دیدارے مضطرب دل قرار باتے ہی

يَا ابْنَ الْحُجْجِ الْبَالِكَاتِ، اے فداکی کائل جمتوں کے فرزند. بالبن النعم الشابغات، اور اے خداکی مکمل نعتوں کے فرزند. يَاابُنَ طَاهُ وَالْمُحْكَمَاتِ، اے طا و مطبوط نشانیوں کے فرزند يَاايْنَ يْسَ وَالدِّرِيَاتِ، اے لیبی و زاریات کے فرزند يَا ابْنَ الطَّوْرِ وَالْعْدِيثِ، اے طور و عادیات کے قرند

### وَلاَ اسْهَمُ لَكَ حَسِيْسًا وَلاَ

ادربه کان تیری صدا کونه بلندا وازیس اورنهی مرگوثیر

نجوى،

میں سی سکیں۔

عَزِيْزُعَلَىٰ ٱنْتَجِيْظ بِكَ

کس قدر سخنت میرے ہے ہے کہ بلائیں ومعائب

دُوْنِيَ الْبُكُوٰى وَلَا يَكَالُكُ مِنِّي

آپ کو ہرطرف سے گھے لیں اور میری نسریاد

ضجِيْجٌ وُلاشكُوٰى،

اورشکوہ آپ یک نہ پہنے سکے۔

بَلُ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُكَ أَوْثَرَى،

وہ کون سی سرزمین ہے واب کے دودسے مرفرانہ

ابرضوى اوْغَيْرِهَا أَمْرِدِي

آيا وه رضوي ہے؟ يا وادى ذى طوى ہے؟ يا بھر

طُوٰی،

كوئى اورىمزىين ؟

عَزِيْزُعَكَ أَنْ أَرَى الْخُلْقَ

کس قدر گرال ہے مجھ پر کریہ برسمت انکھیں ری فلقت کا

وُلاثُرى،

توشابه كري ليل ترب ديدار عروم ريل.

#### ذُكْرَافَحُنَّا،

روز آه وزاری کرتے ہیں

#### بِنَفْسِي ٱنْتَمِنْ عَقِيْدِعِيزِ

ميرى جان آب پرفدا اكراب ده بندم تبه وبزرگ مردادين كم

لَا يُسَامَى،

جس كى عظرت كى بندلول تك رسائي ممكن نهيل.

بِنَفْسِي ٱنْتَوْنَ وَنُولُ الْمِيْلِ عِنْدِ

میری جان آپ پرنثار ا آپ سرف وعظمت کے اس رحم

لايُجَادى،

پریل کرس کی مسری کوئی نیس کرسکتا۔

بْنَفْسِي ٱنْتَوْمِنْ مُّغَيِّبِ لَمْ ميري جان آپ پر قرُبان ! آپ وه غائب بير ترُبان يَحُلُّمِنَا، سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ نفسى أنت مِن نازج مّا نزم عنا، میری جا آپ برفدا آپ ده بخیرے بوئے بیں کرج برگرام سے فہان بنفسى أنت أمنية شارئو میری جان نار ہو آپ پر! آپ ہراس مومن و يُتَهُنِّي مِنْ مُّؤُمِن وَّمُؤُمِنَةٍ مومنه کی انتائی آرزویس کرجرآپ کی یاویس شب

اے میرے مولاد آقا! کب تک؟ ادرکس صفت ولقب

فِيْكُ وَأَيَّ نَجُولِي؟

سے آپ کو مخاطب کریں اورکس زبان سے مرکوش کریں۔

عزيزعكان أجاب دونك

کس قدر گران ہے مجھ پر کرتیرے غیرسے جواب سنوں اور

ورقاقاع

تری گفتادسے محوم دموں۔

عَزِيْزِعَلَىٰ ٱنْ ٱبْكِيكَ وَ

کس قدرمشکل ہے میرے سے کہ تیری یادیں گریہ

بِنَفْسِي ٱنْتَ مِنْ تِلَادِ نِعَمِ

میری جان آپ بر قربان! آپ خداکی ده نعمت بین کرس

الاتضاهي،

ک کو ٹی نظیر نہیں ۔

بنفسِيُ انْتُ مِنْ نَصِيْفِ

میری جان آپ پر ثار! آپ اس شرف وبزرگ کے

شُرُفِلْايْسَاوٰي،

خاندان سے میں کرص کی براری مکن بنیں۔

الى مَتَى أَحَارُفِيكَ يَامُؤُلَاي،

ا عير عمولا! كب تك آكي فراق مي ترفية رين؟

هَلُ مِنْ جُزُوْعٍ فَأَسَاعِ مَا

آیا کوئی ہے تیری یا دیں آہ وزاری کرنیوالاکر صر کے ساتھ

جَزْعُهُ إِذَاخُلاءِ

ال كرآه وزارى كركول.

هَلْ قَنِيتَ عَيْنَ فَسَاعَانُهُا

آیاکوئی الیی چشم اشک بارے کر میری آنکھوں

عَيْنِي عَلَى الْقُنْاي؛

ا ماتھ دے کے۔

هَلْ إِلَيْثُ يَاابُنَ أَخْهَدُ

اے فرزنداممد! کی آپ یک پنجنے کی کوئی

يَخُذُلكَ الْوَرْي،

کروں اور لوگ تیری یا دسے غافل ہوں۔

عَزِيْزُعَلَىٰ ٱنۡ يَجۡرِىٰ عَلَيْكَ

کس قدر ونت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کرسارے

دُوْنَهُمُ مُّاجِرِي،

مصائب تجه برنازل بول اوردوس محفوظ بول.

هَلُ مِن مُّحِيْنِ فَأَطِيلُ مَعَهُ

آیاکوئی ہے میری مدد کرنے والا ؛ جومیرے ہم گریہ ونالہ

الْعُونِيلُ وَالْبُكَاءِ؛

بوسك تاكه اس گريكوطولاني كرسكول .

سَبِيْكُ قَتُلْقَى؛

راه ب ؟

هَلْ يُتَّصِلُ يُوْمُنَامِنْكَ

آیا وہ لخطہ دیدار اسکے گا کہ جس سے ہم

بِحِدَةٍ فَنَحُظى؛

خوستال ہو کیں.

مَثَى نُرِدُمَنَاهِلَكَ الرَّدِيَّةُ

مولا! وہ وقت كب آئے كاكر جب تيرى برايت كے

فنزوى

مرحثیول سے بیراب ہوسکیں ؟

مَنْ نَنْتُوْمُ مِنْ عَنْ بِمَالِكُ

مولاً! كباد كوقت أب كي ترميري سرباب بوسكين كے ؟

فَقُدُ طَالَ الصِّدَى ؟

پیاس توبهت طولانی بوچی سے۔

مَنْى نُنَادِيْكَ وَثُرَادِحُكَ


وه صبح و شام كب مولى ؟ كمجب بهارى أنهيس آپ


فنقرعينا

كے جمال سے تھنڈك پاكس

مَثَى تَرَانَا وَنَرَاكِ وَقُنُ نَشُرُتَ

كب أب بم پرنظرة اليسك اوريم آكي ديدارس سرف ياب بو







### خَلَقْتُهُ لِنَاعِصْهَةً وَمُلَادًا وَ

جے تونے ہارے لیے پناہ گاہ اور دنیا و آخرت

أَقَهْتُهُ لَنَا قِوَامًا وَمُعَادًا،

یں ہارے ثبات کا ذرائعہ قرار دیا ہے۔

وَجَعَلْتُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِثَا إِمَامًا،

جے تونے ہم پر اور دومرے مومنین برام اور رمبر بنایا ہے۔

فَبُلِّفُهُ مِثَاتَحِيَّةً وَسُلامًا،

اس مک ہمادے بہترین ورود وسلام بہنچا دے

وَزِدْنَابِنَالِكَ يَارَبِّ اكْرُامًا،

اور اس طرح ہمارے عزت واکرام میں اضافہ فرما۔

اسْتَوٰى وَمَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَى

يس تبديل كردے راے كل كائنات پر قادرُ طلق! اے وہ كم

والهنتكى

جس کی طرف بیشنا ہے اور جرتم م امور کی انتہاہے۔

ٱللَّهُمَّرُونَحُنَّ عَبِيْدُ كَ التَّالِقُونَ

بارِالما! ہم تیرے ناچیزبدے تیرے اس ولی کی زیادت کے

إلى وَلِيِّكَ الْمُنْكِرِبِكُ وَ

مشاق میں کہ جو تیری و تیرے رسول کی یاد تازہ

بنبيتك

كرتا ہے۔

اس کی جائے سکونت اور محل استقراد کو ہماری جائے سکونت

وَمُقَامًا،

اورمحل استقرار قراردسے۔

وَٱتُهِمْ نِعُهَتُكُ بِتَقُويَهِكَ

اس کی رہبری کے طفیل اپنی نعمت کویم پر کامل فرایب

اِيَّاهُ أَكَامُنَا عَتَّى تُوْرِدَنَاجَنَانَكَ وَ

نک که وه بین تیری جنت مین داخل اور تیرے مخلص

مُرَافَقَةُ الشُّهُدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ،

شہدار کی رفاقت وہمراہی عطا کر دے

ٱللَّهُ وَّصُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ

اے خدا اپنی بہترین رحتیں محد اور ان کی آل

مُحَمَّدٍ،

ير نازل فرا-

وَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جَدِّهِ وَ

تیرا درود ہوان کے جد بزدگوار محدید کرج تیرے

رُسُو لِكَ السِّيِّدِ الْرَكْبُرِ،

رسول اور سيد اكبر بين.

وعلى أبيه السّيد الأصغر،

اوران کے والد بزرگوار پر کہ جو سیداصغریں.

#### ذَاذْ وُمُرُوا كُثْرُ وَادْفُرُ فَاصَلَّيْتُ

بیش ترین درُود سلام جو تونے اپنے

عَلَى اَحْدِيةِنَ اصْفِيا لِكُو

بہترین و منتخب بندوں کے لیے

خِيرَتِكِ مِنْ خُلْقِكَ،

مخصوص فرائے ہیں.

وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلْوَةً لَاغَايَةً

بار الله ! ان پر ایسی رحتیں نازل فسرا کہ

لِخَدُدِهَا وَلَا نَهَا يَكُ لِهَدُدِهَا

جن کا شمار کرنا ممکن به ہواورجن کی

وَجَدَّتِهِ الصِّدِيْقَةِ الْكُبْرَى

اور ان کی والدہ صدیقہ کری

فَاطِهُ نِنْتِمُحُمَّدٍ،

فاظمه بنت گئ بر،

وعلى من اصطفيت من

اور ای طرح ان کے متم

। ग्रेंक्शिंग्रेंहें।

آباء طاہری بر۔

وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ وَأَكُمْلُ وَأَتَّكُمْ لَ وَأَتَّكَّرُ

اورخود اكس سي پرتير براين كالرين و محكم ترين و

## وَصِلِ اللَّهُ مَّ بَيْنَا وَ بَيْنَا

اے قدا! ہمارے اوران کے درمیان میں ایسی

وُصْلَةً تُؤدِي إلى مُرَافقة

والسنكى و پيوستكى قائم فرما كرجواس كے باكرو

سَلَقِهِ،

طاہرا باء کی مجتب پرمنتی ہو۔

وَاجْحَلْنَامِمُنْ يَأْخُذُرِجُمْ

اور بیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما کرجوال بنیو

وَيَهْكُتُ فِي ظِلِّهِمْ،

کے دامن مے تنک ہوگئے اوران کے سائر لطف بیں باتی ہے

وَلَانَفَادُ لِلْمُدِهَا ،

و معت انتا نه رکھتی ہو۔

ٱللَّهُمَّ وَٱلْحَقَّ ،

خدایا اس کے وسیلہ سے حق کو قائم فرا۔

وَأَدُحِضَ بِهِ الْبَاطِلُ،


باطسل کو زائل نسرها.


وَأُدِلُ بِهِ أَوْلِياءً كُون


دومستول کی رہے نمائی فرا،

وَاذْلِلْ بِهِ أَعْدُاءُكُ

وشمنوں کو ذلیل فسرما









#### ترويج اسلام اور ترويج آگمي كيلئے مطبوعات

- 🔵 جلوه بإئے رحمانی
- 🔵 غلامان الملبية
- 🔵 على توعلى ہے
- 🔵 گفتاردلنشين
- 🔘 وظائف الأبرار
  - ر بر 14 **ا**
- 🔘 وظائف ناديلي
- 🔵 توضيح المسائل
- (استکناه اوران کے جوابات) جلد ااور ||
  - 🔘 زیارت ناحیه
    - ( وعائے عبد

- تعقیات نمازبازجمه
  - الكالل بازجمه
  - 🔵 دعائے نور بازجمہ
- 💿 دعائے کمیل بازجمہ
- 🔘 وعائے توسل بازجمہ
- 🔵 مديث كساءبازجمه
- وعام مثلول بازجمه
  - وعائديه بازجمه
- 💿 وعائے جوش كبير باتر جمه
  - 🔵 زيارت عاشورابازجمه
- استعاؤه (مشتال عضور يناوطي)

- قرآن مجیدیاکٹ ماز (مترجم)
  - 🔵 چېل صديث جلداول تا جهارم
    - خطبات امام حسين
      - 💿 قرآن جاراعقيده
    - 🔵 ياليتا (شاعرى مجوعه)
      - 💿 كعيربكوپيادا
    - 🔵 تشيع تقاضے اور ذمدداريال
      - 🔵 معاد (تيامت)
        - 💿 تفييرسوره ليس
- (۱) استفتاءاوران کے جوابات (مبدات)
- استفتاءاوران کے جوابات (معالمات)

#### <u>شعيد عاامه عارف الحسيني كي كتب</u>

- 💿 دعائے ممل (وصال حق) 🌑 آ داب کاروال
- مخنعشق 🔵
  - 🔵 سفيرنور

- سفيرانقلاب
- 🔘 گفتار صدق
  - 🗨 پيام نور

#### اسلامی اخلاقی ومذہبی کتب کی خریداری کیلئے

ملنے کا پتہ

8- بيسمنك ميال ماركيث غزني سٹريث اردوبازارلامور فون: 042-7245166

